



# بالغ تارکین وطن کیلئے انگلش پروگرام (Adult Migrant English Program) میں چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال

کیا آپ کو Adult Migrant English Program, AMEP کی کلاسوں میں حاضر ہو پانے کیلئے بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام درکار ہے؟ جب آپ AMEP کلاس میں ہوں، آپ کے ان بچوں کیلئے مفت دیکھ بھال دستیاب ہوتی ہے جو سکول جانے کی عمر کو نہ پہنچے ہوں۔

آپ کا AMEP سروس پرووائیڈر آپ کے گھر یا AMEP کلاس سے 30 منٹ تک کے فاصلے پر بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ AMEP سروس پرووائیڈر آپ کیلئے نزدیک ترین دیکھ بھال کا انتظام تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔

AMEP سروس پرووائیڈر بچوں کی دیکھ بھال کا ایسا انتظام کرے گا جو آپ کے AMEP کورس کے آغاز کے مطابق ہو۔ وہ ان دنوں کیلئے بھی دیکھ بھال یقینی بنانے کی کوشش کرے گا جن دنوں میں آپ کلاس لیتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ دیکھ بھال کیلئے بالعموم سیٹیں محدود ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ یہ سیٹیں لینا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار فوری طور پر داخلہ نہیں ملتا یا آپ کو جزوی داخلہ پیش کیا جاتا ہے اور اس دوران آپ مزید دن مہیا ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔

مفت دیکھ بھال صرف اس وقت کیلئے فراہم کی جاتی ہے جب آپ AMEP کلاس میں حاضر ہوں۔ آپ کی AMEP کلاس کے اوقات کے علاوہ سرگرمیوں کیلئے دستیاب نہیں ہے۔ جب آپ AMEP کلاس میں نہ ہوں، یا آپ کی پڑھائی کا وقت ختم ہو چکا ہو تو آپ کو خود بچے کی دیکھ بھال کا انتظام کرنا ہو گا۔ اگر آپ کا بچہ یا بچے کچھ وقت کیلئے دیکھ بھال کے انتظام میں نہیں آئیں گے تو یہ ام ہے کہ آپ اپنے AMEP سروس پرووائیڈر کو آگاہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کیلئے کرائی گئی بکنگ کو تبدیل کیا جا سکے۔

اگر آپ بہت سی AMEP کلاسوں سے غیر حاضر رہے تو سروس پرووائیڈر دیکھ بھال میں آپ کے بچے کا داخلہ منسوخ کر سکتا ہے۔ تاہم اگر آپ AMEP میں واپس آ جائیں تو آپ کو دوبارہ مفت دیکھ بھال مہیا ہو جائے گی۔ تاہم آپ کو بچے کی دیکھ بھال کیلئے دوبارہ سیٹ ملنے کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔

بچوں کی دیکھ بھال کیلئے آپ کی ضرورت کو جانچتے ہوئے AMEP سروس پرووائیڈر آپ کو کئی مختلف مواقع پیش کر سکتا ہے تاکہ آپ جلد از جلد اپنی پڑھائی شروع کر سکیں۔ مثال کے طور پر آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ:

- آپ کسی کمیونٹی سنٹر میں پڑھیں جہاں سنٹر میں ہی بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام ہو
  - آپ اپنی خواہش سے زیادہ فاصلے پر جائیں
  - بچوں کی دیکھ بھال میں داخلہ مہیا ہونے تک ہوم ٹیوٹر یا فاصلاتی تعلیم کے ذریعے پڑھیں جتنا فاصلہ
- اگر بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام آپ کی ضروریات پوری نہ کرتا ہو تو آپ کو اپنے AMEP سروس پرووائیڈر سے اس بارے میں بات کرنی چاہیئے۔

بچوں کی دیکھ بھال کیلئے مزید معلومات کیلئے اپنے AMEP سروس پرووائیڈر سے بات کریں۔